

شش کلمے

اول کلمہ طیب

دوسرا کلمہ شہادت

تیسرا کلمہ تمجید

چوتھا کلمہ توحید

پانچواں کلمہ استغفار

چھٹا کلمہ ردِ کفر



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔

دوسرا کلمہ شہادت

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں

لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔



سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

جو بہت بلند عظمت والا ہے۔

چوتھا کلمہ توحید

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں،

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ

اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے

لَّا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، بڑے جلال اور بزرگی والا ہے۔

بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

پانچواں کلمہ استغفار

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَدْنَبْتُهُ

میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا

عَمَدًا أَوْ خَطَايَا سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً وَأَتُوبُ

یا بھول کر۔ چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر اور میں اس کی بارگاہ میں

إِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ

توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس

الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا (اے اللہ!) بے شک تو غیبوں کا جاننے والا

وَسَيِّئَاتِ الْغُيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ

اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند، عظمت والا ہے۔

چھٹا کلمہ ردِ کفر

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو

شِئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا

تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے

أَعْلَمُ بِهِ تَبَّتْ عَنْهُ وَتَبَّرَاتُ مِنَ الْكُفْرِ

اس (شرک) کی جس کو میں نہیں جانتا اور میں نے اس سے توبہ کی۔ اور بیزار ہوا کفر سے

وَالشِّرْكَ وَالْكَذِبَ وَالْغَيْبَةَ وَالْبِدْعَةَ

اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت (سیئہ) سے

وَالنَّبِيَّةَ وَالْفَوَاحِشَ وَالْبُهْتَانَ وَالْمَعَاصِي

اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے

كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔